



سوال

(602) عورتوں کو نبی ﷺ نے مزدلفہ کی رات جانے کی اجازت دے دی؟

جواب

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

کیا سب ہی عورتوں کو ضعیف اور کمزور سمجھا جاتا ہے، جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدلفہ کی رات غروبِ قمر کے بعد وہاں سے جانے کی اجازت دی تھی؟

الجواب بعون الوهاب بشرط صحیحہ السؤال

وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ!

الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

نہیں، سب ہی عورتوں کو ”عاجز اور ضعیف“ قرار نہیں دیا جاسکتا۔ ”عجز“ ایک خاص وصف ہے جو کسی بھی عورت یا مرد میں ہو سکتا ہے۔ اور اس کے بالمقابل ”قدرت اور قوت“ کا وصف ہے جو مرد کے ساتھ ساتھ عورت کو بھی حاصل ہو سکتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا تمہنا کیا کرتی تھیں کہ کاش میں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے لی ہوتی جیسے کہ حضرت نے لی تھی کہ فجر سے پہلے مزدلفہ سے روانہ ہو جائے۔ تو اس مسئلہ میں اعتبار قوت اور قدرت کا ہے، خواہ یہ مردوں میں ہو یا عورتوں میں۔

اور جس حاجی کے لیے جائز ہے کہ وہ مزدلفہ سے قبل فجر روانہ ہو جائے، اس کے لیے یہ بھی جائز ہے کہ وہاں منیٰ میں پہنچتے ہی کنکریاں مار لے، اسے سورج طلوع ہونے تک انتظار کرنا ضروری نہیں ہے۔ اگر انتظار کر لے تو افضل ہے۔ اور قبل از وقت روانگی سے مقصد یہی ہے کہ ازدحام سے محفوظ رہے۔

اور جو انسان طاقت اور قدرت رکھتا ہے، اسے نماز فجر پڑھنے کے بعد ہی وہاں سے روانہ ہونا چاہئے جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا۔

ہذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب

احکام و مسائل، خواتین کا انسائیکلو پیڈیا



مجلس البحث والدراسات
محدث فتویٰ

صفحہ نمبر 428

محدث فتویٰ